



## سوال

(416) قربانی کے گوشت کا مصرف

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

قربانی کا گوشت تین دنوں تک استعمال کیا جاسکتا ہے، نیز کتاب و سنت کے مطابق اس کا صحیح مصرف کیا ہے، تفصیل سے آگاہ کریں؟

## اجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السوال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

قربانی کا گوشت شروع میں ایک ہنگامی ضرورت کے پس نظر تین دن تک استعمال کرنے کی اجازت تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پابندی کو ختم کر دیا۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے جو کوئی قربانی کرے، تیسروے دن کے بعد اس کے گھر میں اس سے کوئی چیز باقی نہ ہو، آئندہ سال صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اس سال بھی ہم اسی طرح کریں جس طرح ہم نے گذشتہ سال کیا تھا تو آپ نے فرمایا: ”کھاؤ اور کھلاؤ نیز ذخیرہ کرو۔ گذشتہ سال لوگ مشقت میں تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ تم ان کی مدد کرو۔“ [1]

ایک دوسری حدیث میں اس ہنگامی ضرورت کی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ دیباتی لوگ مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، ان کے تعاون کے لئے یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ قربانی کا گوشت انہیں دیا جائے۔ [2]

جب یہ ہنگامی ضرورت ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی پابندی بھی ختم کر دی۔ اب انسان قربانی کا گوشت اپنی صوابیدہ کے مطابق جتنے دنوں تک چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے مصرف کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، اس کے علاوہ سوال سے کہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔“ [3]

اس آیت سے کچھ اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک پانچ لئے، دوسرا ملکا تیوں اور رشته داروں کے لئے اور تیسرا سائلین کے لئے۔ جبکہ بعض علماء اس آیت سے پہلے والی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گوشت کے دو حصے کے جانیں، نصف پانچ لئے اور نصف صدقہ کے لئے۔ [4]

لیکن درحقیقت ان آیات سے اس طرح قربانی کے گوشت کو دو یا تین حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم نہیں نکلتا بلکہ ان میں مطلقاً کھانے کا حکم ہے، اس لئے اس اطلاق کو اپنی جگہ پر برقرار رہنا چاہیے اور کسی تقسیم کا پابند نہیں بنانا چاہیے بلکہ قربانی کا گوشت سارا بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا۔

[5]



محدث فتویٰ

اور جتنا چاہے خوب بھی کھاس کتا ہے اور اسے ذخیرہ بھی کر سکتا ہے۔ (واللہ اعلم)

[1] صحیح البخاری، الاضاحی: ۵۵۶۹۔

[2] صحیح مسلم، الاضاحی: ۱۹۷۱۔

[3] صحیح: ۳۶۔

[4] صحیح: ۲۸۔

[5] صحیح البخاری، انج: ۱۷، ۱۸۔

هذا ما عندی والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد 4۔ صفحہ نمبر: 365

محمد فتویٰ